




*Combination valve is part of the air purge body assy.



	1 Fuel filter	2 Primer pump	3* Combination valve	4 Main jet	5 Metering lever	6 Inlet needle valve	7 Fuel inlet filter	8 Pump diaphragm	9 Metering diaphragm	10 Throttle stop screw	Shroud
Inspection points	Fuel filter Solvent	Check for cracks کریک چیک کریں	Check for cracks کریک چیک کریں	Clean the main jet passage چھج کوٹھیں کریں	Check metering lever and spring میتیرنگ لیور اور سپرنگ چیک کریں	Valve Valve seat Replaces OK نیول نیڈل وائیو اور سیٹ چیک کریں	Replaces OK نیول اینل فیلٹر چیک کریں	Check for damage چیک کریں	Check for damage چیک کریں	Adjust idle speed 3,100 ± 200 rpm. ایڈجسٹ ایڈل سپیڈ کریں	Check for cracks چیک کریں
Hard to prime with primer bulb پرانگڑی کا مشکل ہونے لگتا ہے	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Engine does not start انجن نہ چل پاتا ہے	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Unstable idle speed ایڈل سپیڈ کی زیادتی کمزوری ہوتی ہے	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Unstable high speed ہائی اسپید پر زیادتی کمزوری ہوتی ہے	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poor acceleration ایکسیلیٹیشن کمزور ہوتی ہے	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fuel overflow فیول اوورفل ہو جاتا ہے	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Special Attention خاص ہدایات

کاربوئیڈر کے ہالکیٹ اسکرو کو اسکرودا تھیر سے ایڈجسٹ نہ کریں

پمپ کے ڈی ایف فارم کو دھانی چیز سے صاف کرنے کی کوشش نہ کریں ورنہ بیڈنچ ہو سکتا ہے

بائی پریشر ایئر ریڈیو اور پلاسٹک پائپس پر استعمال نہ کریں اس سے یہ خراب ہو سکتا ہے

صفائی کے لئے سوپ برش استعمال کریں

Advise your customer to use a fuel stabilizer for intermittent use and drain the fuel system for storage longer than

- ایجنے کو سٹور کرنے کے لیے ایئر اور فیول سٹیبلائزر کا استعمال کریں
1. Drain fuel from tank.
 2. Drain fuel from carburetor.
 3. Drain fuel from fuel tank again.
 4. Keep engine in shady and ventilated storage.

